



سوال

(425) میت کی طرف سے صدقہ کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس نے کوئی وصیت نہیں کی کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد صدقہ کرنا، کیا اسکی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے؟ (محمد نصر اللہ گوندلانوالہ، تحصیل و ضلع گوجرانوالہ) (۶ نومبر ۱۹۹۲ء)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

فوت شدہ آدمی کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے۔ اگرچہ وصیت نہ کی ہو۔ حدیث میں ہے:

”قُلْنَا لَنَا أَجْرَانِ تَصَدَّقْتُ عَنْمَا قَالُ نَعَمْ مُتَّقٍ عَلَيْهِ“ (صحیح البخاری، باب مَوْتِ الْفَجَاءَةِ الْبَغِيضَةِ، رقم: ۱۳۸۸، صحیح مسلم، رقم: ۱۰۰۴)

”یعنی ایک نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! میری والدہ اچانک فوت ہو گئی۔ خیال ہے اگر وہ کلام کرتی تو صدقہ کرتی۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کے لیے اجر ہے فرمایا ہاں۔“

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 337

محدث فتویٰ